



سوال

(703) شعبان کی پندرہویں رات

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کیا شعبان کی پندرہویں رات کوئی خاص نماز ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

شعبان کی پندرہویں رات کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بیان کی جانے والی تمام روایات موضوع، ضعیف اور بے اصل ہیں۔ اس رات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اس میں کوئی قراءت، کوئی خاص نماز یا اس رات کسی نماز کے باجماعت ادا کرنے کے سلسلہ میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ بعض علماء نے جو یہ کہا ہے کہ اس رات کی خصوصیت ہے تو وہ ضعیف قول ہے کیونکہ دلیل کے بغیر اس طرح کی خصوصیت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ اس رات کی کوئی خصوصیت نہیں۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 532

محدث فتویٰ